

12 مارچ 2018

## سٹی کونسل 2018 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے تبدیلی لانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہی ہے

برامپٹن، آن – سٹی آف برامپٹن 2018 کمیونٹی گرانٹ پروگرام کے ذریعے برامپٹن کی غیر منافع بخش تنظیموں کو فنڈ فراہم کرنے کے لیے \$850,000 کی سرمایہ کاری کر رہا ہے۔

اس سال سٹی کونسل نے 34 پراجیکٹس اور پروگراموں کی منظوری دی ہے، جس سے نئے تہواروں، کھیلوں کی سیاحت کی تقریبات، تفریحی پروگراموں، فنون اور ثقافت کے پروگراموں اور ساتھ ہی ساتھ دوبارہ ہونے والی تقریبات میں پرجوش تبدیلیوں میں معاونت ملے گی۔ یہ سرمایہ کاری ایک مثبت توانائی پیدا کرے گی، جس سے شہر کے ثقافتی تنوع میں اضافہ ہو گا اور شہری فخر اور کمیونٹی کے ساتھ وابستگی پیدا ہو گی۔

اسپورٹ کیے گئے پروگراموں کی ایک مکمل فہرست [یہاں پائی](#) جا سکتی ہے۔

جنوری 2018 میں نئی، نیبرہڈ انیشیٹیوز اسٹریٹ ایسے پراجیکٹس کو معاونت فراہم کرتی ہے، جن کا مقصد برامپٹن میں موجود علاقوں کی تعمیر و ترقی کو فروغ دینا ہے۔ سالانہ فنڈنگ کے حصول تک پورا سال درخواستیں وصول کی جاتی ہیں۔

سٹی کے گرانٹ پروگراموں کے متعلق مزید معلومات کے [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ فرمائیں۔

### اقتباس:

"سٹی کا کمیونٹی گرانٹ پروگرام ایک اہم سرمایہ کاری ہے، جو کمیونٹی کی تنظیموں کو نئے اور اضافہ شدہ تجربات پیش کرنے میں مدد دیتا ہے، اور رہائشیوں اور سیاحوں کو ہمارے شہر کو دریافت کرنے، تلاش کرنے اور اس میں خوشیاں منانے کے مزید مواقع فراہم کرتا ہے۔"

- میئر لنڈا جیفری

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع آرٹن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نڈر ہو۔ ہمیں [ٹوئٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوارڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654

